

برانچ	سونیری مستقیم روشن سیونگ اکاؤنٹ کے لیے حقائق پر مبنی اہم بیان (یکم جولائی 2025 سے مؤثر) اہم حلت: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لیے دوسرے بینکوں کے ایف اےس وصول کرنے کا حق ہے۔	تاریخ
شرح	اکاؤنٹ کی اقسام اور اس کی نمایاں خصوصیات: یہ معلومات مذکورہ برانچ کے مطابق درست ہیں۔ یہ انوکس، خدمات یا فیس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ فیس / چارجز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com یا ہماری برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سیونگر اکاؤنٹس میں منافع کی ادائیگی (اگر کوئی ہو) قابل اطلاق منافع کی تقسیم کی شرح اور Weightages کی بنیاد پر کی جائے گی، جس کا اعلان بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً کیا جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹس کی بنیاد پر شرح ہوگی جب کہ سیونگر اکاؤنٹس اور اسلامی نرم ڈپازٹس کی بنیاد مضاربہ ہوگی۔	
سیونگ اکاؤنٹ	تفصیلات	
کرنسی		پاکستانی روپے
اکاؤنٹ کے لیے کم سے کم بٹلس	اکھولنے کے لیے برکار رکھنے کے لیے	0 روپے
اکاؤنٹ کی سطحیں فیس		
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جائے گا؟ قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے شرط ہے۔		ہاں
منافع کل بنانہ سے (%) (سالانہ)		7.83%
منافع کی ادائیگی کی تعداد		سہ ماہی
مثلاً 1000 روپے پر آپ مہینہ کدہ مدت میں.....کما سکتے ہیں۔		19.31 روپے

سروسز	اقسام	روشن سیونگ اکاؤنٹ
بیکل ٹرانزیکشن	ادرسلی	قابل اطلاق نہیں
	ادرا سلی	
	بینک کے آئی ایم سے دودروال	0 روپے
	دیگری بینک کے آئی ایم سے دودروال	35 روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول FED)
ایف اےس ایف آرٹ	آئی ڈی سی لائیو بیکل / بکیرنگ	0 روپے
	دیگری ٹرانزیکشن کے لیے	250 روپے ماہانہ - 0.80 ڈالر ماہانہ یا مساوی فاران کرنسی
لیٹہ کارڈ (سالانہ چارجز)	پلائیمیم لیٹہ کارڈ اجراء / سالانہ فیس / اجرتیلی (بھاری)	-/ 9,000 روپے
	پلائیمیم لیٹہ کارڈ اجراء / سالانہ فیس / اجرتیلی (مخفی)	-/ 6,000 روپے
	ماسٹر کارڈ سینٹرلرڈ	-/ 3500 روپے
	ماسٹر کارڈ گو لڈ	-/ 4500 روپے
	پے پاک	-/ 2700 روپے
	اجراء	30 روپے فی ایفٹ یا مساوی دیگر کرنسی
بینک بک	اتحاد پینٹ	کم سے کم 800 روپے فی بینک اور زیادہ سے زیادہ 1600 روپے فی انٹرکٹن (مختلف بینک کی صورت میں)
	ٹیکر بینک / پے آرڈر	500 روپے فلیٹ
ترسیلات زر (خارجی)	فارن ڈیٹا ڈرافٹ	120 ڈالر یا مساوی مع سونٹ چارجز، سروس چارجز 0.10% یا کم از کم 1000 روپے
	وائٹڈرافٹ	137 ڈالر یا مساوی مع سونٹ چارجز، سروس چارجز 0.10% یا کم از کم 1000 روپے
اکاؤنٹ کی مختلف	شیشیوں / سالانہ	0 روپے
	تسل	35 روپے یا مساوی دیگر کرنسی (بشمول ایف ای ڈی)
	آئی ڈی سی لائیو بیکل	0 روپے
ڈیڈروانفر	آئی بی ایف ٹی (IBFT)	25000 روپے تک 0 روپے، 25000 سے زائد 0.1% یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ای ڈی)
	فون / سوبائل / انٹرنیٹ بینک (مکمل بدوار سالانہ)	0 روپے
کلیرنگ	بدل	0 روپے
	ادرسلی	300 روپے فی ٹرانزیکشن
	ایم ایلن	500 روپے فی اسٹرومنٹ
اکاؤنٹ کی بدش	مسٹر کی درخواست	300 روپے، 13 ڈالر دیگر کرنسیوں میں مساوی جو بھی کم سے کم بٹلس دستیاب ہو (اکاؤنٹ کے باقیہ بٹلس کے لئے ٹیکر بینک جاری کرنے کے چارجز اضافی ہوں گے)

لازمی معلوم ہونا چاہیے	
اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مطلوبہ اسناد: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ برائے مہربانی مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ بینک بلاؤٹ: یہ ایمرانی سے بینک کا جرارد پاکستان شیل کوڈ کی دفعہ F489 کے مطابق مجربانہ غلط ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ گھسنا چاہیے۔ سیف گارڈی: آپ کے اکاؤنٹ بک رسائی کے نوٹز کی محفوظ تحویل چھینے ذیبت کارڈ، پین کوڈ، پینکس، ایم پیٹنگ پوزر نیم اور دیگر ڈیجیٹل معلومات وغیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سکیورٹی خطرات کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کے لیے سویری کی بینک کی جانب سے آپ کو بھیجی گئی کال نہیں کی جاسکتی گی۔ ریکارڈ ڈاؤن لوڈنگ: کسی بھی اہم مواصلات کی ضروری سے پہلے کے لیے پیش بینک کے پاس موجود یہ وفاقش / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لیے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوگا ہے؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ بارہ (12) ماہ تک غیر فعال رہتا ہے (یعنی کوئی ذیبت یا کریڈٹ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی یا بیکٹیل چھینز کے ذریعے آگ ان نہیں ہوتا) تو اس کو غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے تو آپ کو اکاؤنٹ سے کوئی بھی ذیبت ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے آپ کو بینک کے تھانوں کو پورا کرنے کے لیے بینک کے ریکارڈز میں رجسٹرڈ رائج یا چینلز کے ذریعے یا قائدہ طور پر بحری ہوئی اور دستخطہ درخواست جمع کرنا ہوگی۔ یہ پیش اکاؤنٹ کی صورت میں اگر آپ ہرچہ با بعد بائی میٹرک تصدیق یا الائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں یا مسلسل چھ ماہ تک پیش کش کی ادائیگی نہیں کرتے تو آپ کا پیش کش اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ فلی پیٹنشر (بیو دا / بن / بین) کی صورت میں اگر آپ تان میرج سرٹیفکیٹ ہر سال 30 جنوری یا اس سے پہلے جمع کرانے میں ناکام رہے تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔	
میں حقائق پر مبنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں	
مسٹر کا نام:	تاریخ:

تختہ شہر پروفکٹ: سونیری مستقیم روشن سیونگ اکاؤنٹ	
پتہ:	
برائے کارپل:	موبائل نمبر:
مسٹر کے دستخط	تصدیق شدہ دستخط